


Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 1500/2022

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	18/10/2022	<p>The appeal of Mr. Amanullah presented today by Mr. Ahmad Shahbaz Alizai Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at D.I.Khan on _____. Notices be issued to appellant and his counsel for the date fixed.</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

BEFORE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Service Appeal No. 1500 /2022.

Amanullah, Ex(EXM) Constable KP-Police.

Appellant.

Versus

Provincial Police Officer, KPK, and Others.


Respondents.


Service Appeal

I N D E X

<u>S.No.</u>	<u>Description of Documents</u>	<u>Annexure</u>	<u>Page(s).</u>
1.	Petition with Grounds of Appeal & affidavit.	--	1-4
2.	Copies of Order of DPO & appln on supply o copies.	A, A/1	5-6
3.	Copies of Deptl: Appeal & Order	B, B/1	7-14
4.	Copy of Revision Petition & Order.	C, C/1, c/2	15-17
5.	Vakalat-Nama	--	18-19

Dated: 17/10/2022.


(Aman Ullah) Appellant
Through Counsel


(Ahmad Shahbaz Alizai)
Advocate High Court, D.I.Khan.

BEFORE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Service Appeal No. 1500 /2022.

Amanullah S/o Feroz Khan Balesh,
Ex-(ESM) Constable No.2830, KP Police
Presently, Village Hazara Paccan, Tehsil Paroa, District D.I.Khan,
(Appellant)

Versus

1. The Provincial Police Officer (IGP), Khyber Pakhtunkhwa, Central Police Office, Peshawar.
 2. Regional Police Officer / Deputy Inspector General of Police, Dera Ismail Khan Region, D.I.Khan.
 3. District Police Officer, Dera Ismail Khan.
- (Respondents)

Note: The address given above are sufficient for the purpose of service.

SERVICE APPEAL u/s 4 OF KP SERVICE TRIBUNAL ACT-1974 AGAIST, FIRSTLY, ORDER OF DPO / D.I.KHAN ISSUED OVER OB No.1492/EC dated 14.9.2021, SECONDLY, AGAINST ORDER ISSUED VIDE ENDS: No:1849/ES ISSUED OVER OB NO. 566 DATED 01.04.2022 WHEREBY DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT WAS REJECTED AND LASTLY FROM ORDER OF PPO/KP DTD 31.8.22 ON REVISION PETITION OF APPELLANT.

Respectfully Sheweth: -

The appellant very humbly submits as under: -

1. That the appellant, an Ex-Serviceman was enrolled as Constable in the Police Department. The appellant has well over (12) years of unblemished service to his credit, earning good will and praise from his superiors for his hard work and devotion. The appellant has always served the department with due diligence, dedication and to the utter satisfaction of his superiors thus earning numerous commendations and rewards.
2. During the entire stretch of his service the conduct of appellant remained unblemished. Service record of the appellant is second to none and no adverse inference was ever drawn by the superiors since nothing of the sort was ever conveyed to the appellant.
3. That to the dismay of appellant, he was, through order dated 14.9.2021 passed by DPO/D.I.Khan, awarded punishment of Termination from service, albeit in sheer derogation of the law, rules and norms of natural justice. Copy of impugned order is placed at Annex-A. (Copies of charge sheet etc have not been

provided by authority despite request was made, copy o application is placed at A/1)

- 4. That the petitioner moved an appeal with worthy RPO, D.I.Khan (Respd No.2) against the above said order however, the appeal did not find any favour and stands dismissed vide order dated 01.04.2022 of RPO, D.I.Khan yet arbitrarily. Copies of departmental appeal and order passed thereon are attached herewith at Annex-B & /1, respectively.
- 5. That aggrieved of the above said orders, lacking legal sanction, the appellant moved a Revision Petition with worthy PPO/KP (Resdt; No.1) but that too, was filed yet through a non-speaking order. Copies of Revision Petition an ode thereon are placed at Annex-C & C/1, respectively.
(Order was never conveyed to appellant, hence appeal is within statutory period)
- 6. That in consequence of above stated situation and having no other departmental remedy left available to him, the appellant prefers the present appeal on the following grounds,

Grounds:-

- a. That, the order of DPO/ D.I.Khan whereby the appellant was initially punished in terms of termination of service, besides consequential order of RPO, D.I.Khan as well order of PPO/KP, each impugned hereby, are not only against the true facts, law & rules but militate against the principles of justice, equity and good order of public service.
- b. That, the allegations leveled, as mentioned in impugned order of DPO, and culminating into award of one of the punishments of most harsh in its kind were based on misconception of true facts, wrong, incorrect and misconceived and unproven.
- c. That, the appellant has been virtually condemned unheard and subjected to a major punishment of the kind "Termination of Service " without being provided with an appropriate opportunity to defend his cause beyond any encumbrance, thus calling for interference by this Hon'ble Tribunal to undo the injustice.
- d. That, the impugned orders are apparently based on misconception and misconstruing of facts besides law, rules and principle of natural justice thus are liable to be set-aside. There is nothing on records to prove any complicity on part of the appellant in the allegation contained in said orders.
- e. While pushing the entire proceedings in a slipshod manner the punishing authority chose to inflict major punishment of termination of service on appellant though beyond facts and in conflict with legal provisions.

- f. That the appellant is innocent and has been subjected to the penalty for no fault of his but for apparently misjudgment & extraneously motivated reasons. DPO/D.I.Khan i.e. Respondent No.3 and RPO / D.I.Khan i.e. (Respondent No.2), while ignoring the law & rules on the subject, erred and failed to regulate proceedings properly besides inflicting punishment onto an innocent person i.e. the appellant. PPO/KP also failed to address the issue through a speaking order hence erred in following the law.
- g. That the appellant has sufficient length of service over more than two and a half decades rendered for the department. While adjudicating in the matter the departmental authorities utterly ignored not only the provisions of law on the point but the rights too, of the appellant. The appellant was neither afforded with any opportunity of personal audience nor of a fair trial, thus was discriminated being, inter-alia, condemned unheard.
- h. That the orders passed by respondents, as impugned hereby, have infringed the rights of and caused grave miscarriage of justice to the appellant without any lawful excuse
- i. That the petition of appeal / appellant is duly supported by law and rules formulated thereunder, besides the affirmation / affidavit annexed hereto.
- j. That this Hon'ble Tribunal is competent and has ample powers to adjudge the matter under reference/appeal.
- k. That the counsel for the appellant may very graciously be allowed to add to the grounds during the course of arguments, if need be.

Prayer:-

In view of the above made submissions, it is very earnestly requested that on gracious acceptance of the instant petition, the impugned order of DPO/D.I.Khan passed on 14.9.2021 whereby petitioner is awarded Punishment of termination from service besides, order dated 01.04.2022 passed by RPO, D.I.Khan over OB No.566 dated 01.04.22 whereby appeal of petitioner was dismissed / rejected and order of PPO/KP dated 31.8.22 on filing of representation may kindly be set-aside and the respondents may be required and directed to reinstate the appellant in the rank of Constable from due date with grant of all back benefits in the interest of justice. Any other benefit that this Hon'ble Tribunal may deem appropriate is solicited, too.

Dated. 17/10/2022

Most respectfully,

Aman Ullah, Appellant.

Ex-Constable No.2830(ESM).

Presently, Village Hazara Pacca, Paroa,
District D.I.Khan


Alteeg Ullah Khan
Advocate High Court


Through Counselys, Q&A:
Ahmad Shahbaz Alizai
Advocate High Court

AFFIDAVIT:

I, Aman Ullah s/o Feroz Khan, the appellant, hereby solemnly affirm and declare on oath this (17) day of Oct; 2022 at D.I.Khan that contents of the petition are true and correct to the best of my knowledge, belief and per official records. Also, that nothing is willfully kept or concealed from this Hon`ble Tribunal.

Dated. 17/10/2022.


(Aman Ullah) Deponent.
Through Counsel


(Ahmad Shahbaz Alizai)
Advocate High Court, D.I.Khan.





DISTRICT POLICE OFFICER
DERA ISMAIL KHAN
(50964120002) (0371/20020)

No. /IC

Dated D/Khan the

ORDER

(109/2021)

Ex Serviceman Constable Aman Ullah, 2030/ESM of this District Police, suspended vide this office order No. 2922/IC dated 21.04.2021, was found involved in supporting criminals / drug mafia were arrested, stating SHO and his staff connections with drug peddlers of PS/ SNK in general and renowned gambler / drug peddlers named Falzan in particular. It was also confirmed by reliable sources he along with his SHO attended dinner at place of said peddler. Since SHO failed to arrest said peddler on directions of DSP / Bahawalpur, a special team was sent to his area of jurisdiction for arrest of said gambler / peddler who effected arrest of 'Falzan' with Hashish and unlicensed pistol. While being arrested, he kept insisting that he may be given a chance to talk to SHO PS/ SNK. On further checking cellphone of said gambler / peddler, a voice message from Call number 03712291986 / Ex Serviceman Amanullah No. 2830/ ESM was found on whatsapp wall of said gambler / peddler wherein delinquent was requesting said gambler to leave the area for few days as high ups have ordered to affect his arrest. Amanullah No. 2830/ ESM later confessed that he sent above voice message.

Ex Serviceman Constable Aman Ullah, 2030/ESM tarnished the image of Police Department by supporting drug Mafia and gambler, hence terminated from Police Services with immediate effect.

District Police Officer
Dera Ismail Khan
109/2021

Dated D/Khan the

- Copy of above is submitted to:-
- Regional Police Officer, D/Khan.
- SP D/Khan
- concerned DSP HQs D/Khan
- DPO D/Khan
- Security & Computer Lab DPO Office D/Khan.
- DPO office

مذمت - DPO - ذریعہ اسٹیشن

مذمت - ذریعہ اسٹیشن

1 - ذریعہ اسٹیشن DB No. 1492 مورچہ 149
221

2 - ذریعہ اسٹیشن

3 - ذریعہ اسٹیشن

4 - ذریعہ اسٹیشن FRP/261 مورچہ 261
222

5 - ذریعہ اسٹیشن P/6 مورچہ 6
222

ذریعہ اسٹیشن

1 - ذریعہ اسٹیشن

ذریعہ اسٹیشن

ذریعہ اسٹیشن

ذریعہ اسٹیشن

1-10-22

امان اللہ

EXNA

ذریعہ اسٹیشن

Aman

01/10/22

۲۰

3 - نہ تھے لکھتے تھے نہ تھے سنائیے

اور نہ ہی کسی صفائی کا موقع تھا

4 - آؤر سڑک ٹرنے سے واضح ہو گیا - ارجس

الزام کی پاداش میں تھے یہ سڑکوں جنوں

سے بیرون کئے جا گئے تھے - وہ کالونی پر جو نہیں

5 - دیکھو اب یہ کالونیاں تھیں - اور یہی سبب تھا کہ

انہوں نے تھامنے سے کہے کہ سڑکیں تھیں

اسی طرف سے الزام تھی کہ کالونیاں تھیں

جس میں بارے لکھی تھیں یہاں تک کہ وہ

تھیں تھیں تھیں - اور انہوں نے الزام

تھیں تھیں تھیں

6. تجارتی اور صنعتی شعبوں کا حصول اور

دستاویز - جرائم کا سلسلہ دروازوں سے شروع

حیاتی ہے۔ اور اس کی اور تمام نیلے برس

کا نام ہے۔ اور اس کی اور تمام نیلے برس

اور اس کا اور تمام نیلے برس

اور اس کا اور تمام نیلے برس

اور اس کا اور تمام نیلے برس

اور اس کا اور تمام نیلے برس

7. دیکھنا ہے کہ اگر ان کے لئے کوئی اور چیز ہے

اور اس کا اور تمام نیلے برس

اور اس کا اور تمام نیلے برس

حضرت امیر سیستانی اشرف علی تھانوی صاحب مدظلہ العالی
کا حکم ہے کہ جو مدرسہ تہذیب و تمدن اسلامیہ کراچی میں

بانی ہے اور اس میں اسلامی تعلیم لگائی

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

حضرت امیر سیستانی صاحب مدظلہ العالی

اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

تہذیب و تمدن اسلامیہ کراچی اور

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

تہذیب و تمدن اسلامیہ کراچی اور

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

5
- پر آپس میں بات خود کرتے ہیں اور کبھی کبھی

8 - پر اگر کوئی شخص میں سے کسی شخص سے ملتا ہے اور
باناہدہ مانوں موجود ہے۔ اس سے کیا عمل کیا

کریں گے۔ کچھ نہیں ہے

8 - یہی مانع لا رہا ہے۔ اس سے کوئی کام نہیں
رکھا ہے۔ اور یہی ہے کہ نہایت اندر جانے

آؤ اس جیوں کا ہے اور صرفی

الفاظ کا عمل کوئی مانوں سے ہے۔

9 - حالانکہ اگر آپ کے پاس ہر قسم کے کام ہیں

کے ساتھ آرام ہی کو لے کر رکھنا ہے تو اس سے

جہاں ہے Attack میں اور پھر ہے

اس سے کوئی شہدائی ہے۔ جہاں نہ ہو رہا

تسلیم

اور آپ کی ساری ساری باتیں
میں نے یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

اور میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں اور
میں نے ساری باتیں یاد رکھی ہیں۔

کے تحت ہے کہ ہم نے اس سرکاری پرائیویٹ کمپنی
کے حال پر غور کیا اور اس کے معاملات کو سامنے لیا
جاسی

پرائیویٹ کمپنی
نمبر 18 ستمبر 2021ء

الہی

2830 سرکاری پرائیویٹ

پرائیویٹ کمپنی
پرائیویٹ کمپنی

Mob. 03442491986

Amir
with



**OFFICE OF THE
REGIONAL POLICE OFFICER
DERA ISMAIL KHAN REGION
estt.rpo.dik@gmail.com**

629,
28/03

14
Annexure B/1
22

No. /ES, Dated DI Khan the 25/03/2022

ORDER

This order disposes of a departmental appeal filed by Ex-Constable Aman Ullah No.2830/ESM of District Police DI Khan against the impugned order of Major Punishment-(Terminated from Service)-by DPO D.I.Khan, passed vide his office OB No.1492 dated 14.09.2021, on the following allegations:

- A. "He, while being posted as gunner with SHO PS SNK, numerous reports were emanated; stating SHO and his staff connections with drug peddlers of PS SNK in general and renowned gambler/drug peddlers named Faizan in particular. It was also confirmed by reliable sources he along with his SHO attended dinner at place of said peddler. Since, SHO failed to arrest said peddler on directions of DSP/Paharpur, a special team was sent to his area of jurisdiction for arrest of said gambler/peddler, who effected arrest of "Faizan" with Hashish and unlicensed pistol. While being arrested, he kept insisting that he may be given a chance to talk to SHO PS SNK. On further checking Cell phone of said gambler/peddler, a voice message form cell number 0344-2491986/Ex Serviceman Amanullah No.2830 ESM was found on WhatsApp wall of said gambler/peddler wherein; delinquent was requesting said gambler to leave the area for few days as high ups have ordered to affect his arrest. Amanullah No.2830/ESM later confessed that he sent above voice message"
 - B. Ex-Serviceman Constable Aman Ullah No.2830 tarnished the image of Police department by supporting during drug Mafia and gambler. Hence terminated from Police service by DPO DI Khan vide OB No. 1492 dated 14.09.2021"
2. The appellant preferred an appeal against the impugned order on 18.09.2021. His appeal was sent to DPO DI Khan for comments and provisions of his service record vide this office letter No.4052/ES dated 21.09.2021. DPO DI Khan, vide his office memo: No.4528/EC dated 06.10.2021, stated in his comments that an inquiry was got conducted through SDPO City, who concluded that during the inquiry appellant had confessed that he had sent a voice message to the drug peddler/gambler Faizan to leave the area for few days as high ups had ordered to effect his arrest. The allegation was proved when the accused Faizan was arrested later on and a voice message from Cell No.0344-2491986/Ex-serviceman Aman Ullah No.2830/ESM was found on WhatsApp wall of said gambler/peddler wherein appellant was requesting the said gambler to leave the area for a few days as high ups had ordered to effect his arrest; The appellant had also confessed that he had sent the above voice message.
 3. The appellant was heard in person in Orderly Room on 05.01.2022. The appellant pleaded that the departmental inquiry was not conducted according to the laid down procedure.
 4. Perusal of the inquiry proceedings revealed that the appellant's plea carried some weight. His appeal was accepted and Mr. Muhammad Nisar, SP FRP DI Khan, was entrusted with de novo enquiry into the allegations against him, with the direction to report within 30-days, vide this office letter No.379/ES dated 19.01.2022.
 5. SP FRP DI Khan, vide his office letter No.261/FRP, dated 04.02.2022, concluded that Ex- Constable Aman Ullah No.2830/ESM was found guilty of the charges levelled against him and the appellant's link with the said gambler/drug peddlers named Faizan in particular had been established. SP FRP DI Khan further stated that he had agreed to the punishment awarded to him by DPO vide the impugned order OB No. 1492 dated 14.09.2021.
 6. The appellant was again called in orderly room on 09.03.2022 and heard him in person. His written as well as oral pleas were found unconvincing.
 7. Keeping in view the above, I, **SHAUKAT ABBAS, PSP**, Regional Police Officer, Dera Ismail Khan, in exercise of the powers conferred upon me under Rule-11, clause-4 (n), of Police Rules 1975, reject the appeal of the appellant Mr. Aman Ullah No.2830/Constable ESM, and UPHOLD the impugned order of major punishment of termination from Service passed by DPO DI Khan vide OB No.1492 dated 14.09.2021.

EC/OB/10/10/10/10

No. 1849 /ES

Copy to the DPO DI Khan w.r.t letter No. 4528/EC dated 06.10.2021 along with his service record (S/Roll & F/Missal). The appellant may please be informed accordingly.

DPO DI Khan

Encl (19)

OB 566
Dt-01-4-22

(SHAUKAT ABBAS) PSP
Regional Police Officer
Dera Ismail Khan

(SHAUKAT ABBAS) PSP
Regional Police Officer
Dera Ismail Khan

12
Application received on 8.4.2022
Copying fee deposited on
(A) Judgement read for review on
(B) No. of
(C) Name of FC - Aman Ullah
(D) No. of No 2 2830/ESM
(E) Date of 8.4.2022
(F) Copy sent to 17.4.2022
(G) Date of For Appeal

درخواست رحم

بھنور جناب والا شان جناب IGP صاحب انچارج ایپلیٹ ڈیپارٹمنٹل بورڈ CPO پشاور

اپیل برائے بحالی ملازمت EX کانسٹیبل امان اللہ نمبر 2830 سکند ہزارہ پکے تحصیل ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

جناب عالی!

گزارش بھنور انور یہ ہے کہ جس Misconduct کے ذمے میں مجھے میری کوالیفائڈ سروس سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ اس کا از روئے قانون کسی Misconduct کے ذمے میں آنا بھی ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ تھانہ SNK ڈی آئی خان میں اپنے سینئر آفیسر کی Advise کو بدنام زمانہ قرار باز فیضان نامی تک حسب الحکم پہنچانا کیا میرے فرائض منصبی میں شامل نہیں تھا یا میں اپنے محترم SHO صاحب کے حکم کی روگردانی کر سکتا تھا۔ ہرگز نہیں۔؟

۲۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسی فیضان نامی قرار باز جو Gambling کا اڈا چلاتا تھا اس کے میرے سینئر آفیسران کے ساتھ کیا مراسم تھے اس میں مجھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنے محترم SHO صاحب نے حالات کے تقاضے کے مطابق Gambling کے کام کی روک تھام کے لئے اسے زبانی سمجھا کر وائس میج بھی کیا کہ برائے مہربانی وہ یہاں سے چلا جائے اور Gambling کی شکایت کا از سرے نو خاتمہ کر دے۔

۳۔ جناب DPO صاحب کو اولاً سینئر آفیسران کے خلاف گناہ ڈائری ہو کر سلسلہ انکوائری شروع ہوا اور بات صرف یہی تھی جو اوپر درج ہو چکی ہے۔ جناب DPO صاحب نے اولاً انکوائری میں صرف SHO صاحب ثناء اللہ خان اور مجھے چارج شیٹ کیا اور ہم دونوں کو سزا ہوئی۔ جس کے بعد ڈیپارٹمنٹل اپیل میں جناب SHO صاحب دوران انکوائری اپنی اس Advise سے منحرف ہوئے اور ساتھ ہی MNA صاحب کی سفارش پر خود تو بحال ہو گئے اور پھندہ میرے گلے میں ڈال کر چلے گئے۔

۴۔ یقینی بات ہے کہ "جلی گرتی ہے تو پچارے غریب پر" اور اس میں محض مجھے اور میرے زیر کفالت افراد خانہ کو حق روزگار سے محروم کر ڈالا۔ اور میری سروس اپیل Reject ہوئی۔ حالانکہ مجھ پر کوئی Misconduct آج دن تک ثابت نہیں ہے۔ وہی ایک چھوٹی سی Advise جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے وہ میرے فرائض منصبی کا حصہ تھی۔ جس کی میں نے بجا آوری کی اور حق روزگار سے بمعہ افراد خانہ و کم سن بچوں کے محروم کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ میرے فرائض منصبی کی ادائیگی اور کرائم کنٹرول کا فرض تھا۔

میری انتہائی مؤدبانہ التجا ہے کہ مجھ پر اور میرے افراد خانہ اور کم سن بچوں پر رحم فرمایا جا کر ایک فرضی الزام کی بااداش میں برخاستگی کے عمل کو از تاریخ

دوقت معاف فرمایا جائے اور اپنی سروس بحال فرمایا جائے۔

مورخہ: 15-04-2022

الذی

امان اللہ ایس کانسٹیبل نمبر 2830 ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

رابطہ نمبر: 03442491986

0344-2491986

کاپی برائے:

جناب AIG لیگل CPO پشاور



OFFICE OF THE
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
KHYBER PAKHTUNKHWA
Central Police Office, Peshawar.

No. SI 1966

122, dated Peshawar the 31/8/2022.

To: The Regional Police Officer,
Dera Ismail Khan.

Subject: APPLICATION FOR RE-INSTATEMENT IN SERVICE.

Memo:

Please refer to your office Memo No. 5375/ES, dated 10.08.2022.

The Competent Authority has examined and filed the application submitted by Ex-FC Aman Ullah No. 2830/ESM (Ex-serviceman) of D.I.Khan district Police for re-instatement in service being a contract employee.

The applicant may please be informed accordingly.

AA Taly

17 'c/2'



OFFICE OF THE
REGIONAL POLICE OFFICER,
DERA ISMAIL KHAN REGION

0300-82021 P.O. BOX 1000
DERA ISMAIL KHAN
Dist. D.I. Khan

No. 5875 /ES

10/08/2022

To The Inspector General of Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject: **APPLICATION FOR RE-INSTATEMENT IN SERVICE**
(In forwarding)

Kindly refer to your office letter No. 5875/22 dated 25.04.2022.

2. DPO DI Khan vide his office letter No. 3030/EC dated 03.08.2022 has intimated that Ex-Constable Aman Ullah No. 2810/ESM was appointed as Ex-Serviceman in Peshawar District on contract basis and thereafter posted to DI Khan District, please.

(Signature)
Regional Police Officer
Dera Ismail Khan



VAKALATNAMA

AHMAD SHAHBAZ ALIZAI

Advocate

bc-12-3964

Date of issue: February 2016

Valid upto: February 2019



ADVOCATE
HIGH COURT

Secretary
KP Bar Council

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR.

In Service Appeal ... Amanullah Vs. PPO KP et

I/WE, Amanullah Appellant,

hereby appoint Mr. Ahmad Shahbaz Alizai, Advocate High Court, DIKhan, M. Ismail Alizai (AHC)
in the above mentioned matter / case and authorize him/ them to do all or any of the following acts,
in my/our name and on my/our behalf, that is to say,

1. To appear, act and plead for me/us in the above mentioned case in this Court/ tribunal in which the same may be tried or heard or any other proceedings what so ever, ancillary thereto, including appeal, revision etc; on payment of fees separately for each court by me / us,
2. To sign, verify, file, present or withdraw all/any proceedings, petitions, appeals, cross objections and application for compromise or withdrawal, or for submission to arbitration of the said case or any other documents, as may be deemed necessary or advisable by him/ them and to conduct prosecution or defense of the said case at all its stages,
3. To undertake execution proceedings, deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be conferred to be done for the progress and in the course of prosecution of the said case,
4. To appoint and instruct any other Advocate/ legal practitioner authorizing him to exercise the power and authority conferred upon the advocate whenever he/they may think fit to do so and to sign Power of Attorney on our behalf,

I /we, the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the advocate or his authorized substitute in the matter as my /our own acts, as if done by me/us to intents and purposes, and I / we undertake that I /we or my/our duly authorized agent shall appear in the court on all hearings and will inform the advocate(s) for appearance when case is called and I/we the undersigned agree hereby not to hold the advocate(s) or his/their substitute responsible if the said case be proceeded ex-parte or dismissed in default in consequence of my/our absence from court when it is called for hearing and for the result of the said case, the adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the advocate(s) which he/they may receive and retain himself/themselves. I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fees agreed by me/us to be paid to the advocate(s), if remain unpaid, he/they shall be entitled to withdraw from prosecution of the above said case until the same is paid and fee settled is only for the above said case and above court and I /we agree hereby that once fee is paid, I/we shall not be entitled for refund of the same in any case whatsoever.

IN WITNESS WHEREOF, I /we do hereby set my/our hand to these presents, the contents of which have been read / read over, explained fully and understood by me/us on this....17th Day of Oct. 2022

Accepted
[Signature]

Accepted By:
[Signature]
Ahmad Shahbaz Alizai,
Advocate High Court.

Thumb Impression / Signature(s) of Executant(s)

[Signature]




ATEEQ ULLAH KHAN

Advocate
bc-10-4909
Date of issue: January 2019
Valid upto: January, 2022



Secretary
KP Bar Council

ت نامہ



بعد الت جناب K.P Service Tribunal, Peshawar گواہ

منجانب Amanullah (Appellant)

امان اللہ PPO KP etc

دعویٰ یا جرم

تفصیل دعویٰ یا جرم سروس ایبل

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے پیروی و جواہد ہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام سروس ایبل کے لیے

کوحب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ میں ہر پیشی پر خود بذریعہ اختیار خاص رو برو عدالت حاضر ہوتا ہوں گا۔ اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب

موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر منظر حاضر نہ ہوں اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف

اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پشہری کے علاوہ کسی جگہ یا پشہری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا ہر روز تظیل پیروی کرنے کے

ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پشہری کے علاوہ کسی جگہ یا پشہری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا ہر روز تظیل پیروی کرنے کے ذمہ دار نہ

ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر پشہری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا ہر روز تظیل یا پشہری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ

دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا جمانہ واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر داخلہ صاحب موصوف مشل کردہ

ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ، یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراءے ڈگری و نظر ثانی ایبل گمرانی و ہر قسم درخواست پر داخلہ و تصدیق کرنے کا

بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کرانے اور ہر قسم کارروائی وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر حاشی یا راضی نامہ و فیصلہ بر

حلف کرنے، و اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکورہ ہیران از پشہری صدر پیروی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اجرائی و گمرانی و برآمدگی

مقدمہ یا منسوفی ڈگری یا تکلیف یا درخواست ختم آسانی یا ترقی یا گمرانی عمل از فیصلہ اجراءے ڈگری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا جنگی طبعہ معائنہ پیروی کا اختیار ہوگا

اور تمام ساختہ پر داخلہ صاحب موصوف مشل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو

کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی ایبل یا گمرانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کی دوسرے وکیل یا ہیر منظر کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں۔ اور ایسے مشیر قانون کو

بھی ہر امر میں وہی اور دینیے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانب التزام ہوگا، وہ صاحب

موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو چوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی پیروی نہ کریں اور ایسی

صورت میں ہر کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا نکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ مسترد ہے

مورخہ 17 مارچ 2022

مضمون و کالت نامہ سن لیا ہے۔ اور اجمعی طرح سمجھ لیا ہے، اور منظور ہے۔

العبد Amanullah

Acceptance
Amanullah